



سوال

(159) مغرب کی دو رکعت سنت مسجد میں پڑھنا کیسا ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز مغرب کی دو رکعت سنت مسجد میں پڑھنا کیسا ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ سنتیں مسجد میں پڑھی جائز نہیں، گھر میں پڑھنی چاہئیں۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حدیث میں ہے:

اجعلوا فی بیوتکم ولا تتخذوا قبوراً (مشکوٰۃ باب المساجد وموضع الصلوة فصل اول)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں کے لیے بھی کرو“

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نوافل اور سنتیں مسجدوں کی بجائے گھروں میں پڑھنا افضل ہے اور مساجد میں جائز ہے۔ اس میں مغرب یا کسی دوسرے وقت کی کوئی خصوصیت نہیں سب کا یہی حکم ہے، صحابہ کرام عہد نبوی میں مغرب کی سنتیں مسجد میں پڑھتے تھے، حدیث میں ہے:

عن عبد اللہ بن مظعل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: «صلوا قبل المغرب رکعتین صلوا قبل المغرب قال فی الثانیۃ کراہیۃ ان یختمھا الناس سنۃ» (متفق علیہ)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نماز مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھو، تیسری مرتبہ فرمایا، جس کی مرضی ہو پڑھے، یہ اس لیے کہ لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ دو رکعت جس قدر شوق اور کثرت سے پڑھتے تھے اس کا بیان حسب ذیل حدیث میں ہے:

عن انس رضی اللہ عنہ قال کنا بالمدینۃ فاذا نزلت الصلوة المغرب ابتداء روا السواری فرکعوا رکعتین حتی ان الرجل الغریب لیدخل المسجد فیحسب ان الصلوة قد صلیت من کثرة من یصلھا (رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب السنن وفضلھا)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، مغرب کی نماز کے لیے جب مؤذن اذان کہتا تو لوگ مسجد کے ستون کی طرف لپکتے اور ستونوں کی طرف میں دو

رکعت نفل پڑھتے، اور صحابہ کرام اس کثرت سے یہ نفل پڑھتے، کہ کوئی اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوتا، تو وہ خیال کرتا کہ مغرب کی نماز پڑھی گئی۔“

یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ صحت کے لحاظ سے اس پر کوئی کلام نہیں، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام مغرب کی سنتیں مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ ورنہ یہ الفاظ کہ

اجنبی آدمی گمان کرتا تھا کہ نماز پڑھی گئی ہے۔ یہ بے معنی ہوں گے، اور ان کا کوئی مطلب نہ ہو گا۔ فافہم وتندبر (تنظیم اہل حدیث لاہور ج ۱۸ ش ۲۱)



مجلس البحث والدراسات
مہدث فتویٰ

قرآن وحدیث کی روشنی میں احکام ومسائل

جلد 02